

## Juz 1st

### ROOT WORDS OF SURAH AL-BAQARAH (47-59)

فَارْهَبُونِ	بِعَهْدِي	أَوْفُوا	نِعْمَتِي	ادْكُرُوا	بِنِي
ر ہ ب	ع ہ د	و ف ي	ن ع م	ذ ك ر	ب ن ي
پس مجھ ہی سے ڈرو	میرا عہد	پورا کرو	نعمت میری/ احسان	یاد کرو	اولاد/ بیٹوں

تَجْزِي	يَوْمًا	اتَّقُوا	الْعَالَمِينَ	فَضَّلْتُمْ	ادْكُرُوا
ج ز ي	ي و م	و ق ي	ع ل م	ف ض ل	ذ ك ر
بدلا/ کام آئے	جس دن	ڈرو	تمام جہان پر	فضیلت دی تمہیں	یاد کرو

عَدَلٌ	يُوحَدُ	شَفَاعَةٌ	يُقْبَلُ	شَيْئًا	نَفْسٌ
ع د ل	أ خ ذ	ش ف ع	ق ب ل	ش ي أ	ن ف س
بدلہ	لیا جائے گا	کوئی سفارش	قبول ہوگی	کچھ بھی	کوئی شخص

الْعَذَابِ	سُوءَ	يَسْؤُمُونَكُمْ	آلِ	نَجَّيْنَاكُمْ	يُنصَرُونَ
ع ذ ب	س و أ	س و م	أ و ل	ن ج و/ ن ج ی	ن ص ر
عذاب	بری طرح	دکھ دیتے تھے تم کو	قوم	ہم نے تمہیں نجات دی	مدد کی جائے گی

رَبِّكُمْ	بَلَاءَ	نِسَاءَكُمْ	يَسْتَحْيُونَ	أَبْنَاءَكُمْ	يُذَبِّحُونَ
ر ب ب	ب ل و	ن س و	ح ي ي	ب ن ي	ذ ب ح
تمہارے رب	آزمائش	تمہاری عورتوں کو	زندہ رکھتے تھے	تمہارے بیٹوں کو	ذبح کرتے تھے

تَنْظُرُونَ	أَعْرَفْنَا	فَأَنجَيْنَاكُمْ	الْبَحْرَ	فَرَقْنَا	عَظِيمٌ
ن ظ ر	ع ر ق	ن ج و	ب ح ر	ف ر ق	ع ظ م
تم دیکھ رہے تھے	غرق کر دیا ہم نے	پھر ہم نے بچا لیا تم کو	سمندر/ دریا کو	شق کر دیا/ پھاڑا ہم نے	بڑی

وَأَعَدْنَا	أَرْبَعِينَ	لَيْلَةً	اتَّخَذْتُمْ	الْعِجَالَ	بَعْدِهِ
و ع د	ر ب ع	ل ي ل	أ خ ذ	ع ج ل	ب ع د
عدہ کیا ہم نے	چالیس	رات کا	تم نے بنا لیا	چھڑے کو	اس کے بعد

ظَالِمُونَ	عَفْوَنَا	تَشْكُرُونَ	آتَيْنَا	الْفُرْقَانَ	تَهْتَدُونَ
ظ ل م	ع ف و	ش ك ر	أ ت ي	ف ر ق	ه د ي
ظالم تھے	ہم نے معاف کر دیا	تم شکر کرو	دی ہم نے	فرق کرنے والی	تم ہدایت حاصل کرو

لِقَوْمِهِ	ظَلَمْتُمْ	أَنْفُسَكُمْ	بِاتِّخَاذِكُمْ	فَتَوَبُوا	بَارِكُمْ
ق و م	ظ ل م	ن ف س	أ خ ذ	ت و ب	ب ر أ
اپنی قوم سے	تم نے ظلم کیا	اپنی جانوں پر	تمہارے بنانے کے	پس توبہ کرو	اپنے پیدا کرنے والے

فَأَقْتُلُوا	خَيْرًا	فِتَابًا	التَّوَابُ	نُؤْمِنُ	نَرَى
ق ت ل	خ ي ر	ت و ب	ت و ب	أ م ن	ر أ ي
پس قتل کرو	بہتر ہے	پھر وہ مہربان ہوا	توبہ قبول کرنے و	ہم ایمان لائیں گے	ہم دیکھ لیں

جَهْرَةً	فَأَخَذْتَكُمْ	الصَّاعِقَةَ	تَنْظُرُونَ	بِعُنْتَاكُمْ	مَوْتَكُمْ
ج ه ر	أ خ ذ	ص ع ق	ن ظ ر	ب ع ث	م و ت
روبرو / سامنے / علانیہ	پس پکڑ لیا تمکو	کڑک بجلی کی	تم دیکھ رہے تھے۔	پھر ہم نے اٹھایا تم کو	تمہاری موت

تَشْكُرُونَ	ظَلَلْنَا	الْعَمَامَ	الْمَنَّ	السَّلْوَى	كُلُوا
ش ك ر	ظ ل ل	غ م م	م ن ن	س ل و	أ ك ل
تم شکر کرو	سایہ کیا ہم نے	بادلوں کا	من	سلوی	کھاؤ (بیو)

رَغَدًا	الْقَرْيَةَ	ادْخُلُوا	يَظْلِمُونَ	رَزَقْنَاكُمْ	طَيِّبَاتٍ
ر غ د	ق ر ي	د خ ل	ظ ل م	ر ز ق	ط ي ب
رغبت سے	شہر میں	داخل ہو جاؤ	وہ نقصان کرتے تھے	رزق دیا ہم میں تمکو	پاکیزہ

فَبَدَّلَ	الْمُحْسِنِينَ	خَطَايَاكُمْ	نَعْفِرُ	حِطَّةً	الْبَابِ
ب د ل	ح س ن	خ ط أ	غ ف ر	ح ط ط	ب و ب
پھر بدل ڈالا	نیکی کرنے والوں کو	تمہاری خطائیں	ہم معاف کر دیں گے	بخش دے	دروازے

يَفْسُقُونَ	رِجْزًا
ف س ق	ر ج ز
نافرمانیاں کرتے تھے	سخت عذاب